

پرچہ I: (معروضی طرز)	انٹرنیٹ (پارٹ-I)	اسلامیات (لازمی)
کل نمبر: 10	2017ء (پہلا گروپ)	وقت: 15 منٹ

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1-1- صبر کا لغوی معنی ہے:

- (a) عادت
(b) روکنا اور برداشت کرنا ✓
(c) بیٹھنا
(d) کھڑا ہونا

2- قرآن حکیم کے مطابق بزرگی کا معیار ہے:

- (a) نماز
(b) رحم
(c) تقویٰ ✓
(d) اسلام

3- تدوین حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا:

- (a) پہلی صدی ہجری میں ✓
(b) دوسری صدی ہجری میں
(c) عہدِ سلاطین میں
(d) دورِ جدید میں

4- ابوہب کا آپ ﷺ سے رشتہ تھا:

- (a) کوئی نہیں
(b) چچا ✓
(c) دور کا
(d) چچا زاد

5- موطا تالیف ہے:

- (a) امام بخاری
(b) امام مسلم
(c) امام ابوحنیفہ
(d) امام مالک ✓

-6 جہاد کے لغوی معنی ہیں:

- (a) لڑنا
(b) کوشش کرنا ✓
(c) میدان جنگ جانا
(d) مرنا

-7 سونے کی زکوٰۃ کا نصاب ہے:

- (a) پانچ تولے
(b) سات تولے
(c) ساڑھے سات تولے ✓
(d) آٹھ تولے

-8 پاکستان کا قیام عمل میں آیا رمضان شریف کی رات:

- (a) اکیسویں شب
(b) بائیسویں شب
(c) اثنیسویں شب
(d) ستائیسویں شب ✓

-9 رسالت کے معنی ہیں:

- (a) پیغام دینا ✓
(b) بات ماننا
(c) احکام بجالانا
(d) عبادت کرنا

-10 عقیدے کی مثال ہے:

- (a) دانے کی
(b) بیج کی ✓
(c) پھل کی
(d) شہنی کی

Babulilm